

# والدین کا رہنما کتابچہ: اسکول میں واپسی موسم خزاں 2021

- ◆ کنڈر گارڈن میں موجود طلبا کو ماسک یا منہ ڈھانپنے والی چیز پہننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔
- ◆ اسکول کا عملہ اور اسکول بس ڈرائیورز پر طبی ماسکس پہننا لازم ہے۔

- طلبا اور عملے پر ہر روز COVID-19 کی علامات کے لیے اسکرین کروانا لازم ہے۔
- کچھ ترامیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کی اجازت ہو گی۔
- طلبا مناسب جسمانی فاصلے کے ساتھ وقفے کے دوران، مشترکہ جگہوں پر اور اندرون خانہ امواد شینر کر سکتے ہیں۔
- جب وہ اندرون خانہ جمع ہونے کے حفاظتی اقدامات پر عمل کریں گے، تو مشترکہ جگہوں کی اجازت ہو گی، مثال کے طور پر ہوم رومز، لائبریریز، ٹیک لیبس اور کیفے ٹیریاز۔
- باقاعدگی سے ہاتھ دھونا یا الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا۔

ہم رہنمائی سے مطلع کرنے اور اسے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کلیدی اقدامات تک رسائی کی خاطر چیف طبی افسر برائے صحت اور صحت کی مقامی یونٹس کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے۔ عوامی صحت کے مقامی ڈیٹا کی بنیاد پر کچھ عوامی صحت کے یونٹس کے لیے اضافی صحت اور تحفظ کے اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ عوامی صحت اور نگہداشت صحت کے کلیدی اشاروں، جیسا کہ ویکسینیشن کے ریٹس کی بنیاد پر پلان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

ہر ممکن حد تک طلباء اور عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے، اونٹاریو کے چیف طبی افسر برائے صحت کے ساتھ شراکت داری میں تحفظ کے اقدامات کو تیار کیا گیا ہے۔ اسکولز کو تعلیمی سال کے لیے صحت اور تحفظ کے اقدامات کی موجودگی کے ساتھ بالمشافہ تدریس کے لیے کھولنے کی اجازت ہے۔

- ایلمینٹری اسکولز – بچے اکٹھے یکجا ہوں گے، جس کا مطلب یہ کہ وہ یکساں بچوں کے گروپ اور ایک استاد کے ساتھ ہوں گے۔ پروگرامنگ جیسا کہ جسمانی تعلیم یا فرانسیسی زبان کی تعلیم بھی بچوں کو اجتماع کی صورت میں فراہم کی جائے گی۔
- سیکنڈری اسکولز – اسکول بورڈز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ طالب علم کے شیڈولز دو بالمشافہ کلاسز تک محدود ہیں۔ اسکولز کے لیے ایسے استثنائت ہیں کہ جہاں رابطے کو گریڈز کے اجتماع کے ذریعے یا اس صورت میں محدود کیا جا سکتا ہے کہ اگر اسکول کا مجموعی سائز چھوٹا ہو، جس کی وجہ سے رابطے کی نشاندہی قابل انتظام ہو جاتی ہے۔

نوٹ کریں: فاصلاتی تدریسی عمل طلبا اور اہل خانہ کے لیے ایک اختیار کے طور پر برقرار رہے گا۔

## یہ وہ کچھ اقدامات ہیں جو اسکول میں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے موجود ہوں گے

- پورے صوبے میں ہوا کے ترسیلی نظام میں بہتریاں:
  - ◆ اسکول بورڈز ہوا کی ترسیل اور/یا فلٹریشن کے ذریعے اسکولز میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانا جاری رکھیں گے اس میں اقدامات جیسا کہ طویل عرصے تک سسٹمز چلانا، بہترین گریڈ فلٹرز استعمال کرنا اور خود مختار HEPA فلٹر یونٹس کی تنصیب شامل ہے۔
  - ◆ اسکول بورڈز جونیز اور سینینئر کنڈر گارڈن کلاس رومز میں صحت اور تحفظ کے اضافی اقدام کے طور پر خود مختار HEPA فلٹر یونٹ رکھیں گے۔
- اسکولز اور زیادہ چھوٹی جانے والی سطحوں کی اضافی صفائی۔
- ماسک پہننا:
  - ◆ گریڈز 1 تا 12 کے طلبا پر اسکول میں اور اسکول کے ذرائع آمدورفت میں اندرون خانہ موجودگی کے دوران مناسب طور پر موزوں ماسکس پہننا لازم ہے۔